



## ذیابیطس کے ساتھ حمل کی منصوبہ بندی

ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ذیابیطس والی خواتین کے  
لیے اہم معلومات

### مفید وسائل/لنسکس:

قومی خیراتی ادارہ. حمل کے ٹول کے لیے مفید منصوبہ [tommys.org](http://www.tommys.org) بندی جو اس بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے کہ آپ اپنے مستقبل کے حمل اور بچے کی صحت کو کیسے بہتر بنا سکتی ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں:

[www.tommys.org/pregnancy-information/planning-pregnancy/planning-for-pregnancy-tool](http://www.tommys.org/pregnancy-information/planning-pregnancy/planning-for-pregnancy-tool)

[fpa.org.uk](http://www.fpa.org.uk) فیملی پلاننگ ایسووسی ایشن کی ویب سائٹ - وہ سب کچھ جو آپ کبھی بھی ماں حمل کے طریقوں کے بارے میں جاننا چاہتی تھیں، نیز اپنے لیے ماں حمل کے بہترین طریقے تلاش کرنے کے لیے استعمال کے لحاظ سے آسان ٹول۔

[diabetes.org.uk](http://www.diabetes.org.uk) "ذیابیطس کے ساتھ رینا" سیکشن میں حمل کے بارے میں، "نوعمرنوں" کے سیکشن میں ماں حمل کے بارے میں اور سگریٹ نوشی ترک کرنے کے مشورے کے بارے میں اچھا سیکشن۔

[womenwithdiabetes.net](http://www.womenwithdiabetes.net) بہت ساری معلومات، ویدیو کلپس اور خواتین کی دوسری کہانیاں۔

[gofolic.org.uk](http://www.gofolic.org.uk) فولک ایسڈ کے فوائد کے بارے میں معلومات اور اس سے پہلے کہ آپ موج مستی شروع کریں، فولک لیں! مہم۔

ذیابیطس کے ساتھ حاملہ کا ایپ Google Play پر مفت ہے۔ حمل کی منصوبہ بندی سمیت بہت ساری معلومات۔

NHS کی بات کرنے کی تھریپز کے ذریعہ حاملہ ہونے سے پہلے کی مشاورت اور دماغی صحت کی مدد دستیاب ہے۔ مزید معلومات کے لیے براہ مہربانی اپنے جنرل پریکٹیشنر (General Practitioner, GP)، کمیونٹی فارماسٹ یا ذیابیطس کی ٹیم سے بات کریں اور جانیں کہ آپ اس سروس سے کیسے رجوع کر سکتی ہیں۔

#### TalkingTherapies

<http://www.notts-talk.co.uk/>

#### Living Well Taking Control

<http://lwtcsupport.co.uk/>

#### Diabetes - NHS Nottingham and Nottinghamshire ICB

<https://notts.icb.nhs.uk/diabetes/>

### پہلے ہی حاملہ ہیں؟ ہم مدد کر سکتے ہیں

اگر آپ حاملہ ہیں اور آپ نے حمل کی منصوبہ بندی نہیں کی تھی تو ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ بسپتال میں مابرین کی ٹیم آپ کو مدد، معلومات اور دیکھ بھال فراہم کرنے کے لیے جلد از جلد آپ سے ملاقات کرے گی۔

### آپ کو یہ کرنے کی ضرورت ہے

جتنی جلدی ہو سکے، اپنی GP پریکٹس/ذیابیطس کی ٹیم سے رابطہ کریں۔ وہ درج ذیل میں مدد کریں گے:

- زچگی بونٹ میں ریفر کرنا۔ آپ ایک سے دو بفتون کے اندر ملاقات کی توقع کر سکتی ہیں۔
- فولک ایسڈ کے لیے نسخہ حاصل کرنا۔ آپ کو 5 ملی گرام کی خوراک کی ضرورت ہو سکتی ہے اور یہ صرف نسخے سے دستیاب ہوتی ہے۔
- آپ کی دواؤں کا جائزہ۔

کھانے سے پہلے، کھانے کے ایک گھنٹہ بعد، اور سونئے سے پہلے اپنے خون میں گلوکوز کی سطح کی جانچ شروع کریں تاکہ آپ کی ذیابیطس کے علاج کو محفوظ طریقے سے ایڈجسٹ کیا جا سکے۔

آپ اپنے GP پریکٹس سے خون میں گلوکوز کی خود نگرانی کرنے کے لیے جانچ کٹ اور اسٹریس حاصل کر سکتی ہیں۔

### یاد رکھیں... آپ کی ذیابیطس کی ٹیم آپ کی مدد کے لیے حاضر ہے!

ہم ماں حمل ادویات، آپ کی حمل کی منصوبہ بندی اور صحت مند بچے کی پیدائش میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر ماں حمل یا حمل کے بارے میں آپ کے کوئی سوال ہیں تو آج ہی رابطہ کریں۔

### ایسٹ آف انگلینڈ ذیابیطس کلینیکل نیٹ ورک

کلینیکل نیٹ ورک مقامی صحت کی دیکھ بھال کرنے والی ٹیموں کے ساتھ مل کر ذیابیطس میں مبتلا ان خواتین کی مدد کر رہا ہے جو حمل کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں۔ ای میل:  
[england.eoediabetescn@nhs.net](mailto:england.eoediabetescn@nhs.net)

یہ کتابچہ ذیابیطس UK، ذیابیطس والی خواتین میں حمل کی نتائج کو بہتر بنانے کے لیے مشرقی انگلستان مطالعہ (EASIPOD)، بیڈ فورڈ شائر، لونڈ اور ملنٹن کینز انٹریگرینڈ کینٹ بورڈ اور ایسٹرن آئینڈمک بیلٹہ سائنس نیٹ ورک (EAHSN) کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے۔





آپ حمل کے دوران پیچیدگیوں کے اپنے خطرے کو کم کر سکتی ہیں۔

#### پہلے ہی منصوبہ بندی کریں



اگر آپ حاملہ ہونے کے بارے میں سوچ رہی ہیں تو اپنی ذیابیطس کی ٹیم سے ملاقات کریں اور وہ ٹیم آپ کے ساتھ کام کرے گی تاکہ آپ سب سے زیادہ صحت مندرجہ سکیں۔

اپنے خون میں گلوکوز کی سطح کو کنٹرول کریں  
اپنے HbA1c کو 48 mmol/mol یا 6.5% کے قریب رکھئی کی کوشش کریں جتنا کہ آپ محفوظ طریقے سے رکھ سکتی ہوں (بائپوگلیسیمیا کے بغیر)۔ کھانے سے پہلے اور 1 گھنٹہ بعد، اور سونے سے پہلے اپنے خون میں گلوکوز کی سطح کی جانج کریں۔

روزانہ 5 ملی گرام فولک ایسڈ کی گولیاں لینا شروع کریں



پیدائشی نقصائص (خاص طور پر دل اور ریڑھ کی بدھی) کو روکنے میں مدد کے لیے حمل سے پہلے شروع کریں۔ اس کے لیے آپ کو اپنے GP سے نسخہ درکار ہوگا۔

#### اپنی دواؤں کا جائزہ کروائیں



خاص طور پر بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور ذیابیطس کی گولیوں کا جائزہ کروائیں کیونکہ تمام ابتدائی حمل میں محفوظ نہیں ہوتی ہیں۔ آپ کا ڈاکٹر یہ فیصلہ کرنے میں آپ کی مدد کرے گا کہ کون سا جاری رکھنا ہے اور کس کو روکنا ہے یا کسی محفوظ متبدال میں تبدیل کرنا ہے۔

#### کسی ماہر غذائیت سے ملیں



آپ اور آپ کے بچے کی بہترین ممکنہ صحت میں مدد کرنے کے لیے کسی ماہر غذائیت سے حمل کی غذائیت کے بارے میں بات کریں۔ اس کے علاوہ آپ NHS ویب سائٹ پر یہ بھی جیک کر سکتی ہیں کہ آیا آپ صحت مندرجہ BMI رینج کے اندر ہیں یا نہیں۔ اگر آپ اس کے اندر نہیں ہیں تو آپ ڈیجیٹل ویٹ مینجنمنٹ پروگرام تک آن لائن رسائی حاصل کر سکتی ہیں یا آپ کا GP، ذیابیطس کی ٹیم یا کمیونٹی فارماسٹ آپ کو مقامی ویٹ مینجنمنٹ سروس کو ریفر کر سکتے ہیں۔

#### تمباکو نوشی روکنے کے لیے مدد طلب کریں



اگر آپ تمباکو نوشی کرتی ہیں تو تمباکو نوشی روکنے کا ماہر آپ کی مدد کر سکتا ہے، خود سے رجوع کر سکتی ہیں، یا ذیابیطس کی ٹیم سے ریفرل کے بارے میں پوچھ سکتی ہیں۔

جو بہترین مشورہ ہم آپ کو دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ چیزوں کو موقع آنے تک ٹالنے کی کوشش نہ کریں۔

## ٹائپ 1 اور 2 ذیابیطس

### مؤثر مانع حمل

پہلے ہی حاملہ ہیں  
جتنی جلدی ہو سکے اپنی GP پریکٹس یا ذیابیطس کی ٹیم سے رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کی اپائٹمنٹس، ادویات اور آپ کے خون میں گلوکوز کی سطح کو کنٹرول کرنے میں مدد کر سکیں

#### حمل سے پہلے کی دیکھ بھال

(مانع حمل کو روکنے سے پہلے)

GP پریکٹس اور ذیابیطس کی ٹیم سے مشورہ لیں

یقینی بنائیں کہ آپ کے گلوکوز کی سطح ہدف کے اندر ہو، یا ممکن حد تک ہدف کے قریب ہو۔

5 ملی گرام فولک ایسڈ لین  
دیگر دواؤں کے بارے میں مشورہ لیں

آپ تعطیلات، کرسمس اور شادیوں کا منصوبہ بناتی ہیں اس لیے اپنے حمل کے لیے منصوبہ بندی کرنے کا خیال رکھیں۔

اگر آپ کو ٹائپ 1 یا ٹائپ 2 ذیابیطس ہے اور آپ جنسی تعلقات قائم کر رہی ہیں تو مانع حمل اور حمل کے بارے میں سوچنا ضروری ہے۔

### مانع حمل

اگر آپ جنسی تعلقات قائم کر رہی ہیں اور آپ کا جلد ہی بچہ پیدا کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو اپنے لیے صحیح مانع حمل کے بارے میں GP پریکٹس سے بات کریں۔ آپ کی ذیابیطس کی ٹیم یا کمیونٹی فارماسٹ مزید معلومات میں بھی آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ ذیابیطس والی زیادہ تر خواتین مانع حمل کی کسی بھی شکل کا استعمال کر سکتی ہیں جیسے۔ گولی، امپلانٹ یا کواں۔

### حامله ہونے کے بارے میں سوچنا


ذیابیطس میں مبتلا زیادہ تر خواتین کا حمل معمول کے مطابق ہوتا ہے جس کے نتیجے میں صحت مندرجہ پیدا ہوتے ہیں۔ تاہم، ذیابیطس ہونے سے آپ اور آپ کے بچے دونوں کے لیے سنگین پیچیدگیوں کا امکان بڑھ سکتا ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حمل کے پہلے 6 بفتے آپ کے بچے کی نشوونما کے لیے انتہائی اہم ہوتے ہیں۔ جیسے ہی آپ بچہ پیدا کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کریں، ویسے ہی اپنی GP/پریکٹس نسیں یا ذیابیطس کی ٹیم سے ملنے کی کوشش کریں۔ جتنی جلدی ہو، اتنا ہی بہتر ہے، اور مانع حمل روکنے سے 12-6 مہینے پہلے بھی بات چیت شروع کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔

### خطرات اور پیچیدگیاں



حمل کی منصوبہ بندی نہ کرنے والی ذیابیطس میں مبتلا خواتین کے لیے سنگین پیچیدگی (جیسے مردہ بچے کی پیدائش، دل یا پیدائش کے سنگین نقص) کا خطرہ تقریباً 10 میں سے 1 کو ہوتا ہے۔

یقین دہانی کے ساتھ، اگر آپ اپنی ذیابیطس کی ٹیم کے ساتھ اپنے حمل کی منصوبہ بندی کرتی ہیں، تو آپ کو سنگین پیچیدگیوں کا خطرہ بنا ذیابیطس والی خواتین کے آس پاس (50 میں سے 1) کو ہوتا ہے۔



اگر یہ معلومات آپ کے کسی بڑے وقت پر پہنچی ہے، آپ کے لیے تشویش کا باعث ہے یا آپ کے لیے متعلقہ نہیں ہے، تو براہ مہربانی بماری مخلصانہ معذرت قبول کریں اور بلا جھجھک بھیں بتائیں۔